

Attempt questions

- 1 The presence of magnetic field can be detected by:
 (a) small mass (b) stationary positive charge
 (c) stationary negative charge (d) Magnetic compass
- 1 میکنیک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔
 ساکن پوزیٹو چارج سے (b) چھوٹے ماس سے
 میکنیک نیڈل سے (d) ساکن نیگیٹو چارج سے
- 2 The step up transformer:
 (a) increase the input current
 (b) increase the input voltage
 (c) Has more turns in the primary coil
 (d) Has less turns in the secondary coil
- 2 سٹیپ اپ ٹرانسفارمر:
 ان پٹ کرنٹ کو بڑھاتا ہے (a)
 ان پٹ ولٹیج کو بڑھاتا ہے (b)
 کی پر ائمی کوائل میں زیادہ چکر ہوتے ہیں (c)
 کی سینٹری کوائل میں چکر کم ہوتے ہیں (d)
- 3 The equation of NOT operation is:
 (a) $X = A \cdot B$ (b) $X = A + B$
 (c) $X = A - B$ (d) $X = \bar{A}$
- 3 ناٹ آپریشن کی مساوات ہے:
 (a) $X = A \cdot B$ (b) $X = A + B$
 (c) $X = A - B$ (d) $X = \bar{A}$
- 4 If $x = A \cdot B$, then $x = 1$ when.
 (a) $A = 1, B = 1$ (b) $A = 0, B = 1$
 (c) $A = 0, B = 0$ (d) $A = 1, B = 0$
- 4 تو $x = A \cdot B$ پر ہوگی اگر:
 (a) $A = 1, B = 1$ (b) $A = 0, B = 1$
 (c) $A = 0, B = 0$ (d) $A = 1, B = 0$
- 5 A device used to transport files one computer to another.
 (a) Compact (b) laser
 (c) flash driver (d) printer
- 5 ایک ایسی ڈیوائس جو فائلز کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ٹرانسپورٹ کیلئے استعمال ہوتی ہے۔
 (a) کمپیکٹ ڈسک (b) لیزر
 (c) فلاش ڈرائیور (d) پرنسٹر
- 6 Which of the following is not a storage device?
 (a) Hard Disk (b) Flash Drive
 (c) Key Board (d) Cassettes
- 6 ان میں سے کون سی سٹورینج ڈیوائس نہیں ہے؟
 (a) ہارڈ ڈسک (b) فلاش ڈرائیور
 (c) کی بورڈ (d) کیسٹس
- 7 From which of the following you can get information almost about every thing?
 (a) Books (b) Teacher
 (c) Computer (d) Internet.
- 7 مندرجہ ذیل میں سے کس سے آپ ہر طرح کی افادیں لے سکتے ہیں؟
 (a) کتابیں (b) استاد
 (c) کمپیوٹر (d) انٹرنیٹ
- 8 One of the isotopes of uranium. $^{238}_{92}\text{U}$ Find the number of Neutrons in this isotope:
 (a) 92 (b) 146
 (c) 238 (d) 330
- 8 یورینیم کا ایک آئُسوٹوپ $^{238}_{92}\text{U}$ ہے اس آئُسوٹوپ میں نیوٹرونز کی تعداد
 (a) 92 (b) 146
 (c) 238 (d) 330
- 9 The half life of radium-226 is:
 (a) 4000 years (b) 2800 years
 (c) 1620 years (d) 5730 years
- 9 ریڈیم 226 کی ہاف لائف ہے۔
 (a) 4000 سال (b) 2800 سال
 (c) 5730 سال (d) 1620 سال
- 10 The nuclear fission observed by:
 (a) Strassman (b) Ein stien
 (c) Snell (d) Newton
- 10 یوکلیفرش کا مشاہدہ کیا۔
 (a) سٹراسمن (b) آئن سٹین
 (c) سنل (d) نیوٹن